



اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور

اورسيز وزیٹرز ہیلتھ کور

ہم سے رابطہ کریں

ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

ہمارے دفاتر ان شہروں میں
ہیں:

- Adelaide »
- Brisbane »
- Canberra »
- Melbourne »
- Perth »
- Sydney »

اگر آپ بیرون ملک سے آئے ہیں تو آپ عموماً آسٹریلیا کے پبلک میڈی کیئر سسٹم کے تحت طبی یا ہسپتال کے اخراجات کے لئے اہل نہیں ہیں۔ اگر آپ Temporary Skill Shortage (TSS) کے درخواست گزار یا اورسيز طالب علم ہیں تو آپ سے مطلوب ہوگا کہ آپ ایک مخصوص درجے کا صحتی بیمہ (ہیلتھ انشورنس) بنوائیں جو کہ آپ کے ویزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔

آسٹریلیوی شہریوں کے برعکس، جو کہ عموماً اپنے طبی اور ہسپتال کے اخراجات کے لئے صحت کے سرکاری نظام کے تحت میڈی کیئر استعمال کرسکتے ہیں، غیر ملکی افراد جن کے پاس عارضی ویزے ہیں عموماً میڈی کیئر استعمال کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔

بیرون ملک سے آنے والے افراد جو یوکے، سویڈن، بیلجیم، فن لینڈ، اٹلی، مالٹا، نیدرلینڈز، سلوانیہ، ریپبلک آف آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور نیوزی لینڈ سے آئے ہیں، ان کے ممالک کے آسٹریلیا کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کے دوطرفہ انتظامات ہیں۔ ان انتظامات کے تحت، وہ صحت کے سرکاری نظام میں ہنگامی علاج مفت حاصل کرسکتے ہیں جو کہ بصورت دیگر انہیں دستیاب نہ ہوسکتا۔

اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آسٹریلیا میں ہونے کے دوران اگر آپ کو طبی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اپنی جیب سے بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سرکاری ہسپتال میں بھی آپ کو محض ہسپتال کی فیس کے طور پر \$1,000 یومیہ ادا کرنے پڑسکتے ہیں۔ ہیلتھ کور کے بغیر آپ کو علاج کے مکمل اخراجات ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔

اگر آپ اپنی میڈی کیئر کی اہلیت کی صورتحال کے بارے میں غیر یقینی کیفیت کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے مقامی میڈی کیئر دفتر سے چیک کرنا چاہئے یا Department of Human Services – Medicare سے رابطہ کرنا چاہئے۔

اگر کسی وقت آپ کے ویزے کی حالت یا میڈی کیئر اہلیت میں تبدیلی آئے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے بیمہ کار کو مطلع کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آپ کے کور کا درجہ اب بھی موزوں ہے کہ نہیں۔

OVHC کیا کور کرتا ہے؟

ہر OVHC پالیسی قیمت، اہلیت اور فوائد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تاہم، زیادہ تر پالیسیوں کو آپ کے طبی بنیادوں پر ہسپتال میں ضروری داخلے اور آپ کے ڈاکٹر کی فیس کا کچھ حصہ کور کرنا چاہئے۔

ہسپتال اور طبی اخراجات کے کور کے علاوہ، آپ عام علاج معالجے کا کور (General Treatment cover) بھی خرید سکتے ہیں۔ عام علاج معالجے کا کور نجی پریکٹس میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والوں کی خدمات کے لئے معاون ادائیگیاں کرتا ہے جیسے کہ ڈینٹسٹس، آپٹومیٹرسٹس اور فزیوتھراپسٹس۔ بیمہ ان اخراجات کا ایک حصہ ادا کرسکتا ہے، تاہم آپ کو پھر بھی فیس کا کچھ حصہ خود ادا کرنا ہوگا۔

بیرون ملک سے آئے ہوئے افراد کے زیادہ تر صحتی بیموں میں فارماسیوٹیکلز (ادویات) کا محدود کور موجود ہوتا ہے۔۔ غیر ملکی سیاحوں کو بہت زیادہ تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان کا علاج ادویات پر منحصر ہو، خصوصاً سرطان (کینسر) کے علاج معالجہ میں۔

آسٹریلیا میں داخل ہونے والے مسافروں کو اپنے فوری استعمال کی ادویات اور طبی آلات قلیل مقدار میں ذاتی استعمال کے لئے ساتھ لانے کی اجازت بھی دی جاسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے [Therapeutic Goods Administration website—Entering Australia and Personal Importation Scheme](#) دیکھیں۔

بیمہ کراتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ کچھ منصوبوں میں کم فوائد ہوں گے اور بعض میں مخصوص بیماروں کے علاج کے لیے بالکل کوئی کور نہیں ہوگا، نیز انتظار کی مدتیں بھی مختلف ہوسکتی ہیں – بعض پالیسیاں پہلے سے موجود بیماریوں کا بالکل احاطہ نہیں کرتیں۔ مطلب یہ کہ ایسی بیماریوں کا احاطہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ بیمہ خریدتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہئے، اس بارے میں مزید معلومات کے لئے [Tips on health insurance for visitors](#) دیکھیں۔

سفری بیمہ آپ کو ایسی اشیاء کے لیے کور کرسکتا ہے جو کہ وزیٹرز کور کے تحت نہیں آتیں۔ جیسا کہ سفری اشیاء کی گمشدگی اور ہنگامی طبی صورتحال میں وطن واپسی۔

تاحیات ہیلتھ کور اور نجی صحتی بیمے کی تخفیف (rebate) کا اطلاق اورسیز وزیٹرز کی صحت کے کور پر نہیں ہوتا۔ اووسیز وزیٹرز کے صحتی بیمہ کی خریداری پر اشیاء اور خدمات ٹیکس (GST) کا اطلاق ہوتا ہے۔

میں OVHC کہاں سے خرید سکتا ہوں؟

آپ آسٹریلیا میں بطور وزیٹرز کور خرید سکتے ہیں جو کہ آسٹریلیا میں موجود کچھ صحتی فنڈز اور چند عمومی بیمہ کاروں سے دستیاب ہیں۔ آپ دیگر ممالک سے جاری شدہ بیمہ پالیسیوں سے بیمہ کور کا انتخاب بھی کرسکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ TSS ویزا، 457 ویزا، 485 ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا پر ہوں، تو آپ کو اپنے ویزا کی شرائط کے تحت مخصوص صحتی بیمہ کی قسم اور درجہ خریدنے کی ضرورت پڑے گی۔

انٹرنیٹ وزیٹرز بیمہ کا کور ڈھونڈنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ سرچ انجن میں "Overseas Visitors Insurance" یا "Overseas Visitors Health Cover" تلاش کریں اور کم از کم تین پالیسیوں کے فراہم کنندگان کا موازنہ کریں۔

میڈی کیئر لیوی سرچارج آپ کے مطلوبہ صحتی بیمہ پر کیسے اثر انداز ہوسکتا ہے

اگر آپ:

- اونچی آمدنی پر (\$90,000 فی کس یا \$180,000 فی جوڑا یا خاندان بمطابق مالی سال 2017-18) پر ہوں
- ٹیکس مقاصد کے لیے بطور آسٹریلوی رہائشی شمار کئے گئے ہوں، یا
- میڈی کیئر میں کامیابی سے (کسی بھی درجہ کے فوائد – باہمی دوطرفہ، عارضی، یا مکمل) اندراج کروا چکے ہوں

آپ میڈی کیئر لیوی سرچارج سے متاثر ہوسکتے ہیں۔ سرچارج کے بارے میں مزید معلومات اور صحتی بیمہ کی ان پالیسیوں کی قسم کے بارے میں مزید معلومات کے لئے [Medicare Levy Surcharge](#) دیکھیں، جن سے آپ سرچارج سے بری الذمہ ہوسکتے ہیں۔

مزید معلومات ویب سائٹ [ombudsman.gov.au](#) پر دستیاب ہیں

براہ کرم نوٹ کریں: یہ دستاویز صرف ایک رہنمائی کے طور پر جاری کی گئی ہے۔ اس وجہ سے، اس میں پیش کردہ معلومات پر انفرادی معاملات کے لیے بطور قانونی مشورہ انحصار نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اسے یا متبادل قانونی مشورہ سمجھا جانا چاہئے۔ اس دستاویز پر انحصار کرنے کے نتیجہ میں دولت مشترکہ محتسب، قانونی طور پر زیادہ سے زیادہ جائز حد میں رہتے ہوئے، آپ کو ہونے والے کسی قسم کے نقصان یا گھاٹے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ نکرشدہ قوانین کے تازہ ترین جریڈوں کے لیے، براہ کرم [وفاقی رجسٹر برائے قانون سازی](#) سے رجوع کریں۔